

#### **Reimbursement Claim Form**

|                                 |                 | SE                  | CTION 1: CLAIMANT    |                                    |                               |                    |  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| PLAN PARTICULARS                |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
| Name of Participant :           |                 | :                   |                      | _                                  |                               |                    |  |
| Name of Patient :               |                 | :                   |                      | CNIC # of Participa                | nt :                          |                    |  |
| Age of Patient                  |                 | :                   |                      | Wellness Card No.                  | :                             |                    |  |
| Relationship with Participant : |                 | :                   |                      | Plan No.                           | :                             |                    |  |
| DET                             | AILS OF ILL     | NESS                | ■ Pre & Post Hospita | alization                          | D <b>□</b> Hospita            | lization           |  |
| Date of illness first noticed : |                 |                     | ·                    | Date of recovery                   | :                             |                    |  |
| Diagnosis                       |                 | :                   |                      | - '                                |                               |                    |  |
| Has the claiman                 | t suffered from | this illness before | ?? Yes / No          | (If yes, please give date(s) and   | details below)                |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
| TOTAL AN                        | OUNT OF         | CI AIM              | ☐ Pre & Post Hospi   | talization                         | ☐ Hospita                     | lization           |  |
|                                 |                 |                     | •                    | ocopies) of all relevant paid rece | -                             |                    |  |
| prescriptions an                | d discharge sum | mary                |                      |                                    |                               |                    |  |
| Sr. No.                         | Receipt No.     | Date                | Name of Expense      | Patient's Name                     | Relationship<br>with Employee | Amount (in<br>PKR) |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    | -                             |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    | +                             |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    | +                             |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     |                      |                                    |                               |                    |  |
|                                 |                 |                     | Total                |                                    |                               |                    |  |



| DECLARATION BY THE PARTICIPANT & COVERED PERSON  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| I/We, as a claimant, hereby declare that the information provided in the form are true and comrecord. I also hereby authorize TPL Life Insurance Limited - WTO in order to seek information from organization or person that has any record information or acknowledge of health/treatment an which a proposal has any time been made, and the giving of such information. | om any doctor, hospital, laboratory, any other |  |  |  |  |  |
| Participant Signature  | Date of Statement                              |  |  |  |  |  |
| SECTION 2 : PHYSICIAN STAT   | EMENT  |  |  |  |  |  |
| (To be filled by the Attending Physic  | ian)   |  |  |  |  |  |
| DETAILS OF HOSPITAL/ CLINIC/ MED   | ICAL CENTER                                    |  |  |  |  |  |
| Name of Hospital/ Clinic attended :  |  |  |  |  |  |  |
| Name of medical practitioner consulted :   |  |  |  |  |  |  |
| Period of confinement : From: To:  |  |  |  |  |  |  |
| Were any medicines prescribed: Yes / No (If yes, please list the medicines prescribed a  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARATION BY THE ATTENDING   | PHYSICIAN                                      |  |  |  |  |  |
| I confirm having treated Mr/Mrs/Miss:between the dat   | esandand                                       |  |  |  |  |  |
| that the details shown on this form are consistent with my own knowledge of the patient.   |  |  |  |  |  |  |
| Signature of Attending Physician with stamp  | Date of Statement                              |  |  |  |  |  |
| *Note:  1) Mandatory documents which needs to be submitted with claim form are a a) Proper itemized hospital original bills b) Discharge Card / Summary  | is follows:                                    |  |  |  |  |  |

- c) Support / Evidence (Reports, prescription etc.)
- d) Attach valid copy of CNIC and Wellness Card
- 2) Form needs to be completed in all aspects

# Complaints in Respect of Takaful Scheme

If you have any complaint or grievance against the Takaful company, broker, agent, surveyor or bank representative in respect of your takaful scheme, you may file your complaint with the following offices:

#### 1. Federal Insurance/Takaful Ombudsman

2<sup>nd</sup> Floor, Pakistan Red Crescent Society, Annexe Building, Plot# 197/5, Dr. Doud Pota Road, Karachi.

Phone: 021-99207761-62 Website: <u>www.fio.gov.pk/</u>

## 2. Official Coordinator, Small Disputes Resolution Committee - Karachi

The Deputy Director, Specialized Companies Division 5<sup>th</sup> Floor, State Life Building No. 2, Wallace Road,

Off. I.I. Chundrigar Road, Karachi.

Direct no.: 021-99002021 UAN: 021-111-117-327

Email: complaints@secp.gov.pk

### 3. Official Coordinator, Small Disputes Resolution Committee -Lahore

The Deputy Registrar of Companies, Company Registration Office, Lahore.

Associate House, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor, 7-Egerton Road, Lahore.

Direct no.: 042-99014050 UAN: 042-111-117-327

Email: complaints@secp.gov.pk

## 4. Official Coordinator, Small Disputes Resolution Committee-Islamabad

The Management Executive, Insurance/Takaful Division 3<sup>rd</sup> Floor, NICL Building, Islamabad.

Direct no.: 051-9195391 UAN: 051-111-117-327

Email: complaints@secp.gov.pk

#### 5. Securities and Exchange Commission of Pakistan

Toll-Free No.: Toll free 080088008

## بیمہ یالیسی کے متعلق شکایات

# اگرآپ کواپنی بیمه پالیسی کے متعلق انشورنس ممپنی، بروکر، ایجنٹ، سروئیر یابینک نمائندے کے خلاف کوئی شکایت ہوتو آپ درج ذیل دفاتر میں رابطہ کر سکتے ہیں:۔

وفاتی انشورنس محسب. سینڈ فلور، پاکتان ریڈ کرینسٹ سوسائٹی، انیکسی بلڈنگ، پلاٹ نمبر 197/5، ڈاکٹر داؤد پوتاروڈ، کراچی

021-99207761-62 :ಲ್

دفتری رابطه کار (اسلام آباد) اسال ڈسپیوٹس ریز ولوش کمپنی سیکورٹیز اینڈ ایکسپین کمیشن آف پاکستان تھر ڈفلور، این آئی سی اہل بلڈنگ، اسلام آباد

براہ راست نمبر: 051-9195391 یواسے این: 051-111-117-327 ای مسکل: complaints@secp.gov.pk

دفتر می رابطه کار (لا ہور) اسمال ڈسپیوٹس ریز ولوثن کمپنی سیکور ٹیز اینڈ السینج نمیشن آف پاکستان ایسوسی ایٹ ہاؤس، 3rd فلور، 07- ایجرٹن روڈ، لا ہور برادراست نمبر: 042-99014050 براد این: 042-111-117-272

ای میل: complaints@secp.gov.pk

سيكيور شيز اينڈ اليسين كيشن آف پاكستان لول فرى نبر: 080088080 لول فرى

دفتری رابطه کار (کراچی) اسال ڈسپیوٹس ریز ولوشن کمپنی سیکیو رٹیز اینڈ اسپنج کمشن آف پاکستان 5th فلور،اسٹیٹ لائف بلڈنگ 02، ولاس روڈ، آف آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔

براهراست نمبر: 021-99002021 يواكاين: 021-111-117-327 د د complaints@secp.gov.pk